



سوال

میرے والد اور والدہ کے درمیان شادی کو پچیس برس ہو چکے ہیں، اور تین برس قبل میرے والد صاحب نے ایک ہندو بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے مسلمان کر لیا، اس وقت سے ہمارے گھر میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، مذکورہ عورت کے پہلے خاوند سے دو بچے ہیں، مسئلہ کچھ اس طرح ہے: دوسری بیوی بھی وہیں ملازمت کرتی تھی جہاں میرے والد صاحب ملازم تھے، اور وہاں باتیں ہوتی تھیں کہ میرے والد صاحب کے اس عورت سے تعلقات ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی اصل حقیقت حال کا علم تو اللہ کو ہی ہے، مذکورہ عورت کی شہرت کوئی اتنی اچھی نہ تھی، اور اسی طرح وہ بھڑکیلا لباس زیب تن کرتی تھی، اور تین برس گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی اسلامی علامات ظاہر نہیں ہوئیں، وہ ابھی تک بھڑکیلا لباس زیب تن کرتی ہے، اور پہلے خاوند سے دو بچے پیدا ہونے کے بعد اس کا بچے نہ پیدا کرنے کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، میرے والد کو اس کا علم بھی تھا کہ وہ بانجھ عورت ہے لیکن اس کے باوجود اس سے شادی کر لی اب موضوع یہ ہے کہ: کیا یہ شادی صحیح ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے پیدا نہ کرنے والی بانجھ عورت سے شادی کرنا حرام کیا ہے؟ اور اگر اس کا جواب اثبات میں ہو تو ان دو بچوں کا حکم کیا ہے جنہیں اسلامی نام دیا گیا ہے اور وہ ایک نجی اسلامی سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اور میری والدہ کے متعلق میرا کیا موقف ہونا چاہیے، اور اس مسئلہ کے متعلق کیا موقف رکھوں؟

جواب

الحمد للہ

اول:

آپ کے سوال میں بیان ہوا ہے کہ آپ کے والد نے ایک ہندو بیوہ عورت سے شادی کی اور اسے مسلمان کر لیا، اگر تو عقد نکاح کے وقت وہ عورت ہندو تھی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ عقد نکاح کے بعد اسلام قبول کیا ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور آپ کے والد کو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا حرام کیا ہے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں البقرة (221).

اور اگر عقد نکاح اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا ہے تو پھر یہ نکاح صحیح ہے

دوم:

اور آپ کے والد کے لیے ایسی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں جس کی صفات ایسی ہوں جو آپ نے ذکر کی ہیں، اور پھر شریعت اسلامیہ نے رغبت دلانی ہے کہ دین والی عورت اختیار کی جائے، اور اس کا بھڑکیلا لباس پہننا مسلمان شخص کو اس اختیار سے روکتا ہے، اس لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے والد کو لچھے انداز سے وعظ و نصیحت کریں کہ وہ اسے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی راہنمائی کرے اور اسے پردہ کرنے کا حکم دے، اور اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کا التزام کرے

سوم:



رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کرنے کی رغبت دلائی ہے جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے :

"تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں روز قیامت انبیاء کے ساتھ زیادہ ہونے پر فخر کرونگا"

مسند احمد حدیث نمبر (12202) ابن حبان نے صحیح ابن حبان (338/3) اور الہیثمی نے مجمع الزوائد (474/4) میں اسے صحیح قرار دیا ہے

اور شمس آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"الودود" یعنی جو اپنے خاوند سے محبت کرتی ہو

"الودود" یعنی جو کثرت سے اولاد بنتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں قیدیں اس لیے لگائیں کہ جب وہ محبت کرنے والی نہ ہو تو خاوند اس میں رغبت نہیں کریگا، اور جب محبت کرنے والی عورت زیادہ بچے نہ جنے تو مطلوب حاصل نہیں ہوتا اور وہ مطلوب زیادہ بچے پیدا کر کے امت مسلمہ کو زیادہ کرنا ہے، اور کنواری عورتوں میں یہ دونوں وصف ان عورتوں کے رشتہ داروں سے معلوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ غالباً رشتہ داروں میں طبیعت ایک دوسرے میں سرایت کرتی ہے "انتہی

دیکھیں : عون المعبود (33/6-34).

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانجھ عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے

معتقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا :

مجھے ایک حسب و نسب والی خوبصورت عورت کا رشتہ ملا ہے لیکن وہ بانجھ ہے بچے نہیں جن سکتی کیا میں اس سے شادی کر لوں ؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : نہ کرو

وہ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دوسری بار بھی اسے روک دیا، اور پھر وہ تیسری بار آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"تم شادی ایسی عورت سے کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ باقی امتوں سے زیادہ ہونے میں فخر کرونگا"

سنن نسائی حدیث نمبر (3227) سنن ابوداؤد حدیث نمبر (2050).

اسے ابن حبان (363/9) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر (1921) میں اسے صحیح قرار دیا ہے

اور یہ نبی تحریم کے لیے نہیں بلکہ صرف کراہت کی بنا پر ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت اختیار کرنا مستحب ہے واجب نہیں

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اور مستحب یہ ہے کہ عورت ایسی ہو جو زیادہ بچے جننے میں معروف ہو" انتہی

اور مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں :



"زیادہ بچے نہ جننے والی عورت سے شادی کرنا مکروہ تنزیہی ہے" انتہی

دیکھیں: الفیض القدیر (6) حدیث نمبر (9775).

جس طرح عورت کے لیے بھی بانجھ مرد سے شادی کرنا جائز ہے، اسی طرح مرد کے لیے بانجھ عورت سے شادی کرنا جائز ہے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں:

"اور وہ شخص جو نسل پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے عورتوں میں کوئی رغبت اور خواہش ہے اور نہ ہی استمتاع اور فائدہ کی کوئی خواہش ہے تو اس کے حق میں (نکاح کرنا) مباح ہے اگر عورت کو اس کا علم ہو جائے اور وہ اس پر راضی ہو" انتہی

چہارم:

رہا آپ کے والد کا اپنی بیوی کے بچوں کو اسلامی نام دینا اور انہیں ایک اسلامی مدرسہ اور سکول میں داخل کروانا تو یہ دونوں امر ہی اچھے ہیں اس پر آپ کے والد کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فیج اور غلط یا عجیب ناموں کو عربی اور اسلامی ناموں میں تبدیل کرنا قابل تعریف اور لہجھا عمل ہے، مزید آپ سوال نمبر (23273) اور (14622) اور (12617) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں

اور انہیں اسلامی مدرسہ میں داخل کرانا ان کے لیے صحیح دین اسلام کو جاننے اور اسلام قبول کرنے کا ایک وسیلہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نیک و صالح مسلمان بنیں گے

پنجم:

آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں، اور آپ ماں کو نصیحت کریں کہ وہ آپ کے والد کا حق ادا کرے، اور اس کے لیے اپنے خاوند کی حکم عدولی کرنا جائز نہیں، الایہ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کا حکم دے تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، اور آپ اپنے والد کی دوسری بیوی کو نصیحت کریں اور اسے خیر و بھلائی کی طرف راہنمائی کریں، اور اسی طرح دوسری بیوی کی اولاد کی بھی راہنمائی کریں اور ان کا خیال رکھیں اور اسلام کے تعارف اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ان کی معاونت کریں

اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ آپ کے خاندان کی اصلاح فرمائے اور آپ سب کو اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق دے اور اچھے طریقہ سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے

واللہ اعلم۔

اسلام سوال و جواب

73416